

Quranic Arabic Grammar

قرآنک عربک گرامر

Lesson - II

شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

📞 +91 92906 21633 (whatsapp only)



المعرفة والنكرة

01

Ma'rifa, Nakirah - Definite Noun and Indefinite Noun

المعرفة واقسامها

02


Ma'rifa ke Aqsaam - Types of Definite Noun

الحروف الشمسية والحروف القمرية

03

Huroof e Shamsi aur Huroof e Qamari - Sun letters and Moon letters

Useful for teachers



نكرة	معرفة
Nakirah - Indefinite Noun	Ma'rifa / Definite Noun or Name
<p>مثال: رَجُلٌ (كوتى آدمى)</p> <p>Misaal: (Koi Aadmi)</p> <p>Ex: Common man</p> <p>تعريف: نكرة وه اسم هه جو عام معنى بتائے۔</p> <p>TA'REEF: Woh Ism hai jo aam ma'ne bataye.</p> <p>DEFINITION: A Noun which defines non particular thing.</p>	<p>مثال: الرَّجُلُ (خاص آدمى)</p> <p>Misaal: (Khaas Aadmi)</p> <p>Ex: Specific/ particular man</p> <p>تعريف: معرفه وه اسم هه جو ايك خاص چيز كو بتائے۔</p> <p>TA'REEF: Woh ism hai jo ek khas cheez ko bataye</p> <p>DEFINITION: A Noun which defines particular thing.</p>

Adding 'AL' to make it specific Noun	Muarraf bil Alif wal Laam	(1) معرف بالالف واللام
Name	Alam	(2) العلم
Pronoun (Plural: Pronouns)	Zameer (Jama' : Zamaaer)	(3) الضمير
Demonstrative Pronouns	Ism-ul- Isharah	(4) اسم الاشارة
Relative Pronouns	Ism-ul-Mausool	(5) اسم الموصول
Possessive phrase	Izaafat	(6) الاضافة
Vocative	Munaada	(7) المنادى

شعر : أَلْ عِلْمٌ وَالضَّمِيرُ وَالْإِشَارَةُ الْمَوْصُولَةُ الْإِضَافَةُ الْمُنَادَى

(1) Adding 'AL' to
make it specific Noun

(1) Muarraf bil Alif
wal Laam

(1) معرف بالالف واللام

Arshad Basheer Madani Notes

معرفہ کی مثال Marifah ki Misaal Example of a specific noun	تکرہ کی مثال Nakirah ki Misaal Example of non specific noun
(ال + مَدِينَةٌ) = الْمَدِينَةُ	مَدِينَةٌ
(ال + كِتَابٌ) = الْكِتَابُ	كِتَابٌ
(ال + رَجُلٌ) = الرَّجُلُ	رَجُلٌ
الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْحَمْدُ، الصِّرَاطُ، الْمُسْتَقِيمُ، الْكِتَابُ، الصَّلَاةُ، النَّاسُ، السُّفَهَاءُ، الضَّلَالَةُ، الْهُدَى۔	
تعریف: وہ اسم جس کے شروع میں "الف لام" آئے۔ Ta'reef: Woh ism jis ke shuru me "Alif Laam" aaye. Definition: Those names which starts with Alif Laam	

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



(2) Name

(2) Alam

(2) العلم

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

ابراہیم ، إسماعیل ، یعقوب ، یوسف ، عثمان - Ibraheem, Ismaeel, Ya'qoob, Yusuf, Osman	خاص شخص: Khaas shaks / Particular Person
مکة ، مدینة ، ہند ، مصر ، عراق - Makkah, Madinah, India, Egypt, Iraq	خاص شہر: Khaas Shaher / Particular city
الکتاب ، القلم ، المكتب ، السکین - Al-Kitaab, Al-Qalam, Al-Maktab, Al-Sikkeen The book, the pen, the school, the knife	خاص چیز: Khaas Cheez / Particular thing
تعریف : علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا شہر یا چیز کا نام ہو - Ta'reef : Alam woh ism hai jo kisi khaas shaks ya shaher ya cheez ka naam ho. Definition: It is a noun which is the name of a particular person, place or thing.	

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

(3) Pronoun
(Plural: Pronouns)

(3) Zameer
(Jama' : Zamaaer)

(3) الضمير

Arshad Basheer Madani Notes

تعریف: ایسے الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیے جائیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔

Ta'reef : Aise alfaaz jo kisi naam ki jagah par istemaal kiye jaaye inko Zameer(Pronoun) kaha jata hai.

Definition: A Pronoun is a word used as a substitute for a Noun.

Detached Pronouns

Azzameer Al-munfasil

الضمير المنفصل

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (الإخلاص:1)	He	وہ	Huwa	هُوَ	
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. (التوبة:40)	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (البقرة:4)	They (all)	وہ سب	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. (التوبة:40)	She	وہ	Hiya	هِيَ	
هُمَا سَيِّدَتَانِ	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ. (البقرة:187)	They (all)	وہ سب	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (البقرة:32)	You	آپ	Anta	أَنْتَ	
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ. (القصص:35)	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمَا	
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة:91)	You (all)	آپ سب	Antum	أَنْتُمْ	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِّلْحَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. (البخاري:4850)	You	آپ	Anti	أَنْتِ	
أَنْتُمَا طَالِبَتَانِ	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمَا	
أَنْتُنَّ طَالِبَاتُ	You (all)	آپ سب	Antunna	أَنْتُنَّ	
		1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (الانعام:79)	I	میں	Ana	أَنَا	
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. (الصف:14)	We	ہم	Nahnu	نَحْنُ	

Pronoun
(Plural: Pronouns)

Zameer
(Jama' : Zamaaer)

الضمير

Arshad Basheer Madani Notes

Attached Pronouns

Azzameer Al-muttasil

الضمير المتصل

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. (التغابن: 1)	His	اس کا	Hu	هُ	
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. (القصص: 19)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا	
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (البقرة: 7)	Their (all)	ان سب کا	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
لَهَا مَا كَسَبَتْ. (البقرة: 134)	Her	اس کا	Haa	هَا	
فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. (النساء: 176)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا	
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. (البقرة: 29)	Their (all)	ان سب کا	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ. (آل عمران: 35)	Yours	آپ کا	Ka	كَ	
وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا. (القصص: 35)	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُما	
أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ. (المائدة: 4)	Yours (all)	آپ سب کا	Kum	كُم	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
اقْنَتِي لِرَبِّكِ. (آل عمران: 43)	Yours	آپ کا	Ki	كِ	
أَبُوكُما مُهَنْدِسٌ	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُما	
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَرَّوقَ اثْنَتَيْنِ. (النساء: 11)	Yours (all)	آپ سب کا	Kunna	كُنَّ	
		1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. (البقرة: 41)	My	میرا	Yi	ي	
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. (البقرة: 127)	Our	ہمارا	Naa	نَا	

Arshad Basheer Madani Notes

Near Distance/ أسماء الإشارة للقريب					
English	اردو	Roman	مثالیں	عربی	Sl.No.
This	یہ	Haaza	هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ. (ال عمران: 138)	هَذَا	1
These (both)	یہ دونوں	Haazaani	هَذَيْنِ خَصْلَيْنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ. (الحج: 19)	هَذَانِ	2
These (all)	یہ سب	Haa'ulaae	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيِّفِي فَلَا تَفْضَحُونِ. (الحجر: 68)	هَؤُلَاءِ	3
This	یہ	Haazihi	هَذِهِ تَأْتِيكَ اللَّهُ. (هود: 64)	هَذِهِ	4
These (both)	یہ دونوں	Haataani	هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ. (ابن ماجه: 2216)	هَاتَانِ	5
These (all)	یہ سب	Haaulaae	قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ (هود: 78)	هَؤُلَاءِ	6
Far Distance/ أسماء الإشارة للبعيد					
That	وہ	Zaalika	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. (البقرة: 2)	ذَلِكَ	1
Those (both)	وہ دونوں	Zaanika	ذَانِكَ يَوْمَانِ تَعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. (النساء: 2357)	ذَانِكَ	2
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (البقرة: 5)	أُولَئِكَ	3
That	وہ	Tilka	تِلْكَ أُمَّةٌ. (البقرة: 134)	تِلْكَ	4
Those (both)	وہ دونوں	Taanika	تَانِكَ الْمَرْتَانِ الْإِمْسَاكَ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْيِذِ عِنْدَ الْمَوْتِ. (المعجم الكبير، مصنف عبد الرزاق)	تَانِكَ	5
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	أُولَئِكَ النِّسَاءُ	أُولَئِكَ	6

تعريف: کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔

Ta'reef : Kisi cheez ya shaks ki taraf Isharah karne ke liye istemaal hone wale alfaaz ko asmaa e Isharah kehte hai

Definition: Those words that are used to point at something are known as Demonstrative Pronouns.

Arshad Basheer Madani Notes

Relative Pronouns/أسماء الموصولة					
Who, That, Which	وہ شخص جو	Allazi	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ. (الكهف: 1)	الَّذِي	1
Who, That, Which	وہ دو شخص جو	Allazaani	وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ. (النساء: 16)	الَّذَانِ	2
Who, That, Which	وہ سب لوگ جو	Allazeena	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْمُونَ. (المعارج: 23)	الَّذِينَ	3
Who, That, Which	وہ عورت جو	Allati	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (ال عمران: 131)	الَّتِي	4
Who, That, Which	وہ دو عورتیں جو	Allataani	الْإِمْرَأَتَانِ اللَّتَانِ تَنْظِفَانِ الْبَيْتَ.	اللَّتَانِ	5
Who, That, Which	وہ سب عورتیں جو	Allaati Allaace	وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ. (النساء: 23) وَالَّتِي يَبْسُغْنَ مِنَ الْمَحِيضِ. (الطلاق: 4)	الَّتِي الَّتِي	6
Who, that, which	وہ جو	Man	وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّىٰ مِنْ قَبْلُ. (غافر: 67)	مَنْ	7
What, that, which	وہ جو	Maa	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. (البقرة: 32)	مَا	8

تعریف: جو الفاظ جملہ پر داخل ہو کر کسی چیز کے مقصود کو واضح کر دیتے ہیں ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔

Ta'reef : Jo alfaaz jumle par dakhil hokar kisi cheez ke maqsood ko wazeh kardete hai inko asmaa e Mausula kehte hai.

Definition: A relative pronoun used to connect a phrase or clause to a noun or pronoun which highlights the details and gives complete sense. If it is used individually then it will not give complete sense.

Arshad Basheer Madani Notes

اضافت کی مثال

Izafat ki Misaal : Example of possessive Noun

قَلَمُ الرَّجُلِ

قَلَمٌ ← الرَّجُلِ
(مضاف) (مضاف الیه)

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

تعریف: ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنے کو اضافت کہتے ہیں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔

Ta'reef : Ek Ism ki nisbat dusre Ism ki taraf karne ko Izafat kehte hain, pahle Ism ko Muzaaf aur dusre Ism ko Muzaaf Ilaih kehte hain

Definition: The possessive Noun is a combination of two nouns in which the first noun is owned by or in possession of the second noun. First noun is called possessed, and second noun is called possessor.

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

مثال: يَا زَيْدُ ("زَيْدُ" اسم منادی اور "يَا" حرف نداء ہے)
 Misaal : Yaa zaid ("Zaid" Ism Munada aur "Yaa" harf nidaa hai)
 Example: Yaa Zaid (O Zaid)

منادی کی قرآنی مثالیں Munaada ki Qur'ani Misaalen Examples / Quranic examples of Vocative	شمار S.No.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ (البقرة: ۲۱)	۱
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ (البقرة: ۳۳)	۲
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا (البقرة: ۴۰)	۳
قَالَ يَا مَرْيَمُ (ال عمران: ۳۷)	۴
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (البقرة: ۱۰۴)	۵

تعریف: منادی وہ اسم ہے جو حرف نداء کے بعد آتا ہے اور جس میں متکلم مخاطب کی توجہ کا طالب ہوتا ہے۔

Ta'reef : Woh ism jis ke zariye bulaya jaaye.

Definition: Vocative noun is a noun which comes after a vocative particle and in which the speaker seeks the attention of the second person.

الحروف الشمسية والحروف القمرية

03

Huroof e Shamsi aur Huroof e Qamari = Sun letters and Moon letters

Sun Letters	Huroof-e-Shamsi	حروف شمسی
<p>مثال: الطامة، الثواب، الصادقين، الراكعين، التوابين، الضالين، الذاكرين، الناصحين، الدين، السائحون، الظالمين، الزجاجة، الشاكرين، اللهب۔</p> <p>تعريف: وہ لام جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا اور اسکے بعد والا حرف مشدد ہوتا ہے۔</p> <p>Ta'reef : Woh laam jo likha jaata hai laikin padha nahi jaata aur iske baad wala Harf mu-shaddad hota hai.</p> <p>Definition: Those Letters in which the letter Laam is written but not read and the letter after that is Mushaddad.</p> <p>ان کی تعداد ۱۴ ہے۔ جن کا مجموعہ یہ شعر ہے:</p> <p>طب ثم صل رحما تفرضيف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفاً للكرم</p> <p>1- ط. 2- ث. 3- ص. 4- ر. 5- ت. 6- ض. 7- ذ. 8- ن. 9- د. 10- س. 11- ظ. 12- ز. 13- ش. 14- ل.</p>		
Moon Letters	Huroof-e-Qamri	حروف قمری
<p>مثال: الأول، البر، الغني، الحكيم، الجنة، الكبير، الودود، الخبير، الفتح، العليم، القيوم، اليقين، الملك، الهادي.</p> <p>تعريف: وہ لام جو لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا اور اسکے بعد والا حرف مشدد نہیں ہوتا ہے۔</p> <p>Ta'reef : Woh laam jo likha jaata hai aur padha jaata aur iske baad wala Harf mushaddad nahi hota hai.</p> <p>Definition: Those Letters in which the letter Laam is written and read. The letter after that is not Mushaddad.</p> <p>ان کی تعداد ۱۴ ہے جن کا مجموعہ ہے :</p> <p>(ابغ حجك وخف عقيمه)</p>		

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise: 1

Identify the below underlined words whether they are Active or Indefinite

Niche diye gaye khat kasheeda
alfaz maarifa hain ya nakira
pahchaniye

نیچے دیے گئے خط کشیدہ الفاظ معرفہ ہیں یا نکرہ پہچانے

معرفیہ او نکرہ Marifa aur nakira Definite and Indefinite	الاسم ism The Noun	معرفیہ او نکرہ Marifa aur nakira Definite and Indefinite	الاسم ism The Noun
	الارض فراشا	معرفہ	ذلك الكتاب
	انزل من السماء ماء		ذلك الكتاب
	انزل من السماء ماء		هدى للمتقين
	رزقاكم		الحمد لله
	فأتوا بسورة من مثله		الصراط المستقيم
	فاتقوا النار		محمد رسول الله
	ان لهم جنات		سواء عليهم
	رزقوا منها من ثمرة		لهم عذاب عظيم
	لهم فيها ازواج مطهرة		غشاوة
	ان يضرب مثلاً		في قلوبهم مرض
	انه الحق		في الارض
	هم فيها خالدون		هم المفسدون
	الذي جعل لكم		اشتروا الضلالة
	انتم تعلمون		فيه ظلمات وورعد
	هذا الذي رزقنا		يكاد البرق

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise: 3

Read and Write, Identify Solar Letters and Lunar Letters	Padhiye aur likhiye aur huroof-e-shamsi aur huroof-e-qamari ko pahchaniye	پڑھیے اور لکھیے اور حروف شمسی اور قمری کو پہچانیے۔
--	---	--

حروف قمری	حروف شمسی	کھے	پڑھیے
	---	البرق	البرق
			الازواج
			الارض
			السماء
			الصراط
			الكتاب
			الفراس
			السورة
			الثمرة
			المفسدون
			المتقين
			العزیز
			السلام

Exercise: 2

معرفہ کو نکرہ اور نکرہ کو معرفہ بنائیے marifa ko nakira aur nakira ko marifa banaaeye. Interchange Definite with Indefinite and Vice Versa
--

کتاب	الكتاب
	هدی
	عذاب
	عظیم
	المفسدون
	البرق
	مثلا
	الرزق
	الصراط
	الغشاوة
	سماء
	النار
	الارض
	الأزواج

حروف شمسی اور حروف قمری پہچانیے اور Underline کر کے ش اور ق لکھیے

Huroof e Shamsi aur Huroof e Qamari pehchane aur underline karke Sheen aur Qaaf likhiye:
Identify the Sun letters and Moon letters, and underline and write Sheen and Qaaf

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ - (ال عمران: ١٤٤)	وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ - (الانعام: ١٨)
الْمُصْبِحُ فِي زُجَاجَةٍ - (النور: ٣٥)	وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ - (سبا: ٢٦)
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - (الفاتحة: ٣)	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ - (الرعد: ٩)
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (التوبة: ١١٢)	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ - (البقرة: ٣٥)
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ . (الاحزاب: ٣٥)	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ - (المائدة: ١١٩)
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - (البقرة: ٣٧)	لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - (البقرة: ١٧٧)
وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - (البقرة: ٤٣)	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - (الحديد: ٣)
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ - (الحجر: ٩٩)	وَكَلَّا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ - (البقرة: ٣٥)
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ - (ال عمران: ١٩٥)	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ - (التوبة: ١١٢)
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى - (النازعات: ٣٤)	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - (الفاتحة: ٧)
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ - (الانعام: ١٣٣)	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - (البقرة: ٣٢)
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ - (البروج: ١٤)	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ - (البقرة: ٢٥٥)


Vocabulary

03



اعضاء الجسم

اعضاء جسمانی

Parts of Body



sha'r	شَعْرٌ	Ayn	عَيْنٌ
			
Hair	بَال	Eye	آئِکھ
Ra's	رَأْسٌ	wajh	وَجْهٌ
			
Head	سِر	Face	چہرہ
Fam	فَمٌّ	Sin	سِنٌّ
			
Mouth	مَنہ	Tooth	دانت
Uzun	أُذُنٌ	Anf	أَنْفٌ
			
Ear	کَان	Nose	نَاک
Qalb	قَلْبٌ	Me'dah	مَعْدَةٌ
			
Heart	دَل	Stomach	پِیٹ
Saaq	سَاقٌ	Ziraa'	ذِرَاعٌ
			
Calf	پنڈلی	Arm	بازو
Qadam	قَدَمٌ	Yad	يَدٌ
			
Foot	پاؤں	hand	ہاتھ

Ziqnun	ذِقْنٌ	Khaddun	خَدٌّ	Lisaanun	لِسَانٌ	Shafatun	شَفَاةٌ
							
Chin	تُحُوْرِي	Cheek	گال	Tongue	زبان	Lip	ہونٹ
Haajibun	حَاجِبٌ	Jabhatun	جَبْهَةٌ	Lihyatun	لِحْيَةٌ	Shaaribun	شَارِبٌ
							
Eyebrow	ابرو	Forehead	پیشانی	Beard	داڑھی	Mustache	مونچھ
Surratun	سُرَّةٌ	Sadrun	صَدْرٌ	Mirfaqun	مِرْفَقٌ	Kaffun	كَفٌّ
							
Navel	ناف	Chest	سینہ	elbow	کہنی	Palm	ہتھیلی
Damun	دَمٌ	Mukhkhun	مُخٌّ	Yusra	يُسْرَى	Yumna	يُمْنَى
							
Blood	خون	Brain	دماغ	Left	بائیں	Right	دائیں
Aqibun	عَقِبٌ	Ka'bun	كَعْبٌ	Fakhizun	فَخِذٌ	Rukbatun	رُكْبَةٌ
							
Heel	ایڑی	Ankle	ٹخنہ	Thigh	ران	Knee	گھٹنا
Isba'un	إِصْبَعٌ					Rijlun	رِجْلٌ
Finger	انگلی					Leg	ٹانگ



Ashaa'	عَشَاءٌ	Ghadaa	غَدَاءٌ	Futoor	فُطُورٌ	Ghizaa	غِذَاءٌ
Dinner	عشاءية	Lunch	ظہرانہ	Breakfast	ناشتہ	Food	غذاء
Saltah	سَلْطَةٌ	Lahm	لَحْمٌ	Samak	سَمَكٌ	Dajaj	دَجَاجٌ
Salad	سلاد	Meat	گوشت	Fish	مچھلی	Chicken	چکن
Basal	بَصَلٌ	Jubn	جُبْنٌ	Khubz	خُبْزٌ	Shateerah	شَطِيرَةٌ
Onion	پیاز	Cheese	مکھن	Chapati	روٹی	Sandwich	سینڈویچ
Jazar	جَزْرٌ	Halwa	حَلْوَى	Khazrawaat	حَضْرَوَاتٌ	Faakihah	فَاكِهَةٌ
Carrot	گاجر	Sweet	حلوا	Vegetables	ترکاریاں	Fruits	میوے

Conversation

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Useful Arabic words for daily usage

روزمرہ بات چیت میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے

الكلمات العربية المستخدمة اليومية - 1

03

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Who are you?	آپ کون ہیں؟	Man anta?	مَنْ أَنْتَ؟	۱
	What is your name?	آپ کا نام کیا ہے؟	Masmuk?	مَا اسْمُكَ؟	۲
	Come here!	یہاں آئیے!	Ta'aal huna	تَعَالَ هُنَا	۳
رُحْ هُنَاكَ	Go there!	وہاں جائیے!	Izhab hunaak	إِذْهَبْ هُنَاكَ	۴
مِنْ فَيْنَ	Where did you come from?	آپ کہاں سے آئے ہیں؟	Min aina ji't?	مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟	۵
إَيْشَ أَحْبَابِكَ	How are you?	آپ کا کیا حال ہے۔	Kaifa haaluk?	كَيْفَ حَالُكَ؟	۶
	Where is your home?	آپ کا گھر کہاں ہے۔	Ayna baituk?	أَيْنَ بَيْتُكَ؟	۷
	sit beside me or sit with me	میرے پاس بیٹھ جائیے۔	Ijlis indi \ udnu minni \ taqarrab ilay	إِجْلِسْ عِنْدِي / أَدْنُ مِيَّ / تَقَرَّبْ إِلَيَّ	۸
إِجْلِسْ مُرْتَابًا، خُذْ مَكَانَكَ، خُذْ رَاحَتَكَ	Sit properly	اچھی طرح بیٹھیے۔	Ijlis sawiyyan	إِجْلِسْ سَوِيًّا	۹
	Make yourself comfortable	آرام سے بیٹھیے۔	Istarih	إِسْتَرِحْ	۱۰
	Make space for other to sit	کھل کر بیٹھیے۔	Tafassah fil majaalisi	تَفَسَّحْ فِي الْمَجَالِسِ	۱۱
فَيْنَ رُحْ	Where are you going?	آپ کہاں جا رہے ہیں۔	Ayna tazhab \ ayna tarooh	أَيْنَ تَذْهَبُ / أَيْنَ تَرُوحُ	۱۲
أَبْعَيْ مُؤَيَّةَ	I am thirsty	میں پیاسا ہوں۔	Ana atshaan	أَنَا عَطْشَانُ	۱۳
أَعْطِنِي، جِبْ مُؤَيَّةَ	Please bring water for me	پانی لائیے۔	Jib maa' \ I'ti bil maa'	جِبْ مَاءً / اِئْتِ بِالمَاءِ	۱۴
	Bring it quickly	جلدی لائیے۔	Jib bisur'ah	جِبْ بِسُرْعَةٍ / أَعْطِنِي بِسُرْعَةٍ	۱۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Bring it chilled water	مجھے ٹھنڈا پانی پلائیے۔	Isqini maa'an baridan	إِسْقِنِي مَاءًا بَارِدًا	۱۶
	Don't give me hot water	مجھے گرم پانی مت پلاؤ۔	La tasqini maa'an hameeman	لَا تَسْقِنِي مَاءًا حَمِيمًا	۱۷
	Give me pure water	تازہ پانی پلائیے۔	Jib maa'an jayyidan\ taazijan	جِبْ مَاءًا جَيِّدًا / طَازِجًا	۱۸
	Don't eat dry bread	سوکھی روٹی مت کھائیے۔	La ta'kul khubzan jaaffan	لَا تَأْكُلْ خُبْزًا جَافًا	۱۹
	I am hungry	میں بھوکا ہوں۔	Ana jaae' \ jau'aan	أَنَا جَائِعٌ / جَوْعَانٌ	۲۰
	Please give me something to eat	مجھے کچھ کھلائیے۔	At'imni shaian	أَطْعِمْنِي شَيْئًا	۲۱
	I am full/my stomach is full.	میں سیر ہو گیا۔	Shabi'tu	شَبِعْتُ	۲۲
	Heat the water	پانی گرم کیجیے۔	Sakkhinill maa'	سَخِّنِ الْمَاءَ	۲۳
	Cool the water	پانی ٹھنڈا کیجیے۔	Barridil maa'	بَرِّدِ الْمَاءَ	۲۴
	The water has been heated	پانی گرم ہو گیا۔	Hummal maa'	حُمَّ الْمَاءَ	۲۵
	Water has been cooled.	پانی ٹھنڈا ہو گیا۔	Baridal maa'	بَرِّدَ الْمَاءَ	۲۶
	Keep quiet. may Allah have mercy on you	اللہ آپ پر رحم کرے ، چپ ہو جائیے۔	Uskut, Allahu yarhamuk	أُسْكُتْ، اللَّهُ يَرْحَمُكَ	۲۷
	Walk slowly	آہستہ چلیے۔	Hawnan hawnan\ ala rislik	هَوِّنَا هَوِّنَا / عَلَي رِسْلِكَ	۲۸
	What are you reading?	آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟	Maaza taqra'?	مَاذَا تَقْرَأُ؟	۲۹
	I am reading my lesson.	میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں۔	Aqra'au darsi	أَقْرَأُ دَرْسِي	۳۰
	Read loudly	بلند آواز سے پڑھیے۔	Iqra bi sautin aalin	إِقْرَأْ بِصَوْتٍ عَالٍ	۳۱

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	He ran away when I came.	میرے آنے پر وہ بھاگ نکلا۔	Wa huwa qad farra inda ma ji'tu	وَهُوَ قَدْ فَارَّ عِنْدَ مَا جِئْتُ	۳۲
	What is going on?	کیا ہو رہا ہے؟	Maaza ya'maloon	مَاذَا يَعْمَلُونَ	۳۳
	Don't even ask that!	وہ تو پوچھو ہی مت	Fazlan an zaalik	فَضْلًا عَنِ ذَلِكَ	۳۴
	You are right	آپ ٹھیک کہتے ہیں۔	Anta saaib	أَنْتَ صَائِبٌ	۳۵
	It is your mistake	آپ غلطی پر ہیں۔	Innaka mukhti'un	إِنَّكَ مُخْطِئٌ	۳۶
	Set it aside	اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔	za'hu jaaniban	ضَعُهُ جَانِبًا	۳۷
	Yes, now you said it right.	جی ہاں، اب آپ نے ٹھیک کہا۔	N'am al'aan qulta sadeedan	نَعَمْ الْآنَ قُلْتَ سَدِيدًا	۳۸
	Like or as	جیسا کہ / چونکہ	Kamaa	كَمَا	۳۹
	Like that	جیسا کہ وہ۔	Kamaa huwa	كَمَا هُوَ	۴۰
	As you wish	جیسے آپ مناسب سمجھیں۔	Kama tara	كَمَا تَرِي	۴۱
	The best opinion	غالباً۔	Alar-raajeh	عَلَى الرَّاجِحِ	۴۲
	At least	کم سے کم۔	Alal aqal	عَلَى الْأَقَلِّ	۴۳
	However it may be possible	جیسے بھی ممکن ہو	Kaifa ma amkan	كَيْفَ مَا أَمْكَنَ	۴۴
	As much as possible	جتنا ہو سکے	Qadra ma amkan	قَدْرَ مَا أَمْكَنَ	۴۵
	As soon as possible	جتنی جلدی ہو سکے۔	Bi-asra' ma yumkin	بِأَسْرَعٍ مَا يُمَكِّنُ	۴۶
	What happen to him?	اسے کیا ہو گیا؟	Ma lahu ?	مَا لَهُ؟	۴۷

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
مَكَانٌ مُرْتَجِحٌ	Pleasant place	خوشگوار مقام۔	Al-makaanul mureeh	أَمَكَانُ الْمُرْتَجِحِ	۴۸
لَا تُعِدُّ/انْتَبِهْ	Be careful next time.	آئندہ احتیاط کیجیے۔	Ihtariz marratan ukhra	إِحْتَرِضْ مَرَّةً أُخْرَى	۴۹
	Don't do it again!	پھر ایسا نہ کرنا۔	La tu'ed marratan ukhra	لَا تُعِدُّ مَرَّةً أُخْرَى	۵۰
رُحْ مِنْ هُنَا	Stay away from me! get out of here!	میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔	Ibta'id an amaami	إِبْتَعِدْ عَنِ آمَامِي	۵۱
تَعَالِ/سُرْعَةً سُرْعَةً	Come here quickly!	جلدی میرے پاس آؤ۔	Asri' ilay	أَسْرِعْ إِلَيَّ	۵۲
	This rumor is false. Or this is not the reality. Or this news is not correct.	یہ افواہ غلط ہے۔	Hazal khabru maa fish \laa shai/ maa fi haqeeqah	هَذَا الْخَبْرُ مَا فِيهِ شَيْءٌ مَا فِي حَقِيقَةٍ \	۵۳
	I will soon die of starvation.	عقرب میں بھوکا مر جاؤں گا۔	Sa-amootu jau'an	سَأَمُوتُ جَوْعًا	۵۴
أَنَا بِحَاجَةِ مَا سِوَاكَ إِلَيْهِ/ مُخْتَأَجٌ إِلَيْهِ	My work can't be done without him.	اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔	Lastu astaghni anhu	لَسْتُ أَسْتَغْنِي عَنْهُ	۵۵
خُذْهُ بِقُوَّةٍ	Hold it tightly	اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔	Iqbiz alaihi jayyidan	إِقْبِضْ عَلَيْهِ جَيِّدًا	۵۶
	I am too busy in my work.	میں اپنے کام میں بہت مصروف ہوں۔	Ana mashgoolun fi amali	أَنَا مَشْغُولٌ جِدًّا فِي عَمَلِي	۵۷
مُتَّفِقٌ مَعَكَ/أَنَا رَاضٍ عَنْكَ/أَنَا مُوَافِقٌ	I am with you.	میں آپ کے ساتھ ہوں۔	Ana ma'ak	أَنَا مَعَكَ	۵۸
هُوَ غَضَبَانٌ عَلَيْكَ	He is unhappy with you	وہ آپ سے ناراض ہے۔	Huwa saaqitun alaik	هُوَ سَاخِطٌ عَلَيْكَ	۵۹
	How worthy is it to you?	آپ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے؟	Bikam yusaawi indak	بِكَمْ يُسَاوِي عِنْدَكَ	۶۰
لَا أَعْرِفُ\مَا أَعْرِفُ/ لَا أَعْلَمُ	I don't know	مجھے اس کا علم نہیں ہے۔	Laisa li bihi ilm	لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ	۶۱
عَفْوًا/ سَامِحِي/ لَوْ سَمَحْتَ	I am apologizing to you or sorry.	میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔	A'taziru ilaikum	أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ	۶۲
أَسِفٌ جِدًّا	I regret it	مجھے اس پر افسوس ہے۔	Ana muta-assifun alaih	أَنَا مُتَأَسِّفٌ عَلَيْهِ	۶۳

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	His dealing is not good	وہ بے ادب ہے۔	Rajulun ghairu tayyib	رَجُلٌ غَيْرُ طَيِّبٍ	۶۴
	I don't like his dealing.	مجھے اس کی معاملت واری پسند نہیں۔	La uhibbu wala arza bitta'ammuli m'ahu	لَا أُحِبُّ وَلَا أَرْضُ بِالْتَّعَامِلِ مَعَهُ	۶۵
	I didn't see anything beautiful then this/ nothing is better then this	میں نے اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔	Maa ra'aytu shai'an ajmala minhu	مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَجْمَلًا مِنْهُ	۶۶
	Don't get angry	غصہ نہ کیجیے۔	la taghzab	لَا تَغْضَبْ	۶۷
	Don't be jealous of each other	ایک دوسرے سے حسد نہ کیجیے	La tahaasadoo	لَا تَحَاسَدُوا	۶۸
	Thank you sir	میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔	Mashkoorun min fazeelatikum	مَشْكُورٌ مِنْ فَضِيلَتِكُمْ	۶۹
	Beware of places where one can become a victim of false accusations	تہمت کی جگہوں سے بچو۔	Ittaqoo mawaazi'at-tuham	إِتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهْمِ	۷۰
	I am pleased to meet you	مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔	A'jabanee liqaa'ukum	أَعْجَبَنِي لِقَاءُكُمْ	۷۱
	I hope you will forgive me	امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔	Afwan lau samaht	عَفْوًا أَوْ سَمَحْتَهُ	۷۲
	You are wrong and I am right	آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔	Anta mukhtiu wa ana museebun	أَنْتَ مُخْطِئٌ وَأَنَا مُصِيبٌ	۷۳
	You deserve a punishment	آپ ملامت کے مستحق ہیں۔	Anta tastahiqqullu'ma	أَنْتَ تَسْتَحِقُّ اللَّؤْمَ	۷۴
	He had guests at his place.	اس کے ہاں مہمان آئے۔	Nazala bihiz-zaif	نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ	۷۵
	My brother had fever	میرے بھائی کو بخار ہو گیا۔	Akhi yu'aani bil humma	أَخِي يُعَانِي بِالْحُمَّى	۷۶
	Bring him to me.	اسے میرے پاس لاؤ۔	Alaiyya bihi	عَلَيَّ بِهِ	۷۷
	This is disgraceful for you or this humiliating for you.	یہ آپ کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔	Ala tastahi	أَلَا تَسْتَحِ	۷۸
	I love you from the bottom of my heart.	میں آپ کو تو دل سے چاہتا ہوں۔	Uhibbuka min a'maaqi qalbi	أُحِبُّكَ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي	۷۹

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Don't embarrass me in front of other people	لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔	La tu'ayyirmi amaaman-naas	لَا تُعَيِّرْنِي أَمَامَ النَّاسِ	۸۰
	This is a calamity	یہ مصیبت ہے۔	Hazihi museebah	هَذِهِ مُصِيبَةٌ	۸۱
	Show me what you brought.	جو آپ لائیں ہیں، وہ مجھے دکھائیے۔	Arini ma ji'ta bihi	أَرِنِي مَا جِئْتَ بِهِ	۸۲
	He is poetical in word or he is eloquent at speech	وہ کتنا شیریں کلام ہے۔	Maa ahlaa kalaamah	مَا أَحْلَى كَلَامِهِ	۸۳
	Avoid negative thoughts about something	بدگمانی سے بچو۔	Ijtaniboo soo'az-zan	اجْتَنِبُوا سُوءَ الظَّنِّ	۸۴
	Give people their due rights humbly.	لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے	Khaaliqinnaasa bikhuluqin hasanin	خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ	۸۵
	I received a letter from my home	مجھے میرے گھر کا خط ملا ہے۔	Wasala ilayya kitaabun min baitee	وَصَلَ إِلَيَّ كِتَابٌ مِنْ بَيْتِي	۸۶
	Do not delay today's work for tomorrow	آج کا کام کل پر مت ڈالو۔	la tu'akhkhir amalal yaumi ilal-ghad	لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ	۸۷
	Whatever you want to do, do it today	جو کرنا ہے آج کر لو۔	E'maloo al-yauma ma shi'tum	اعْمَلُوا الْيَوْمَ مَا شِئْتُمْ	۸۸
	No one knows the unseen except Allah	غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔	La ya'lamul ghaiba illallah	لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ	۸۹
	We don't know what we have to do tomorrow	ہم نہیں جانتے، کل ہم کیا کماں گے۔	La nadri maaza naksibu ghadan	لَا نَدْرِي مَاذَا نَكْسِبُ غَدًا	۹۰
	Disclosing privacy is ignorance	راز فاش کرنا نادانی ہے۔	Ifshaa'us-sirri jahlun	إِفْشَاءُ السِّرِّ جَهْلٌ	۹۱
	Honesty is dear to Allah or Allah loves honesty	سچائی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔	As-sidqu mahboobun ilallaahi ta'aala	الصِّدْقُ مَحْبُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى	۹۲
	I have some important work today	آج مجھے ضروری کام ہے۔	Al-yaumu indi shughlun haammun	الْيَوْمُ عِنْدِي شُغْلٌ هَامٌّ	۹۳
	Today we had breakfast with one of our friends	آج ہم نے اپنے ایک دوست کے پاس ناشتہ کیا۔	Al-yauma aftarna inda saahibin lana	الْيَوْمَ أَفْطَرْنَا عِنْدَ صَاحِبٍ لَنَا	۹۴
	I have a lot of work	مجھے بہت کام ہیں۔	Indi ashghaalun kaseeratun	عِنْدِي أَشْغَالٌ كَثِيرَةٌ	۹۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Don't talk in the masjid	مسجد میں باتیں مت کیجیے۔	La tatakallamoo fil masjid	لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الْمَسْجِدِ	۹۶
	May Allah bless your time with all goodness!	اللہ تمہارے اوقات مبارک کرے۔	As'adallaahu auqaatak	أَسْعَدَ اللَّهُ أَوْقَاتَكَ؟	۹۷
	How is your health?	آپ کی صحت کیسی ہے۔	Kaifa sihhatuk?	كَيْفَ صِحَّتُكَ؟	۹۸
	Thanks to Allah, now I am all right.	اللہ کا شکر ہے اچھا ہوں۔	Ana tayyibun, Alhamdulillah	أَنَا طَيِّبٌ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ	۹۹
	How is your family?	بال بچے کیسے ہیں؟	Kaifa haalul aaeelah	كَيْفَ حَالُ الْعَائِلَةِ	۱۰۰
	The weather has become bad.	موسم خراب ہو گیا۔	Saara jawwu raadee'an	صَارَ الْجَوُّ رَدِيئًا	۱۰۱
	I am shivering from cold	میں سردی سے کانپ رہا ہوں۔	Arta'idu minal baradi	أَزْتَعِدُ مِنَ الْبَرْدِ	۱۰۲
	Today's night would be a moonlight night bi-iznillah	آج کی رات چاندنی رات ہوگی۔ باذن اللہ	Hazihil lailatu takoonu muqmiratan bi-iznillah	هَذِهِ اللَّيْلَةُ تَكُونُ مُقْمِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ	۱۰۳
	Read out your lesson to me	مجھے اپنے سبق سنائیے۔	Sammi'ooni duroosakum	سَمِّعُونِي دُرُوسَكُمْ	۱۰۴
	I write with a pen	میں قلم سے لکھتا ہوں۔	Aktubu bilqalami	أَكْتُبُ بِالْقَلَمِ	۱۰۵
	This paper is rough	یہ کاغذ کھردرا ہے۔	Haazal qirtaasu khushnun	هَذَا الْقِرْطَاسُ خُشْنٌ	۱۰۶
	Hold this pencil.	پنسل پکڑیے۔	Khuz qalamar-rasaasi	خُذْ قَلَمَ الرَّصَاصِ	۱۰۷
	The bell rang	گھنٹی بج گئی۔	Duqqal jarasu	دُقَّ الْجَرَسُ	۱۰۸
	I stayed up all night	میں ساری رات جاگا۔	Sahirtul laila kullaha	سَهَرْتُ اللَّيْلَ كُلَّهَا	۱۰۹
	He wakes up early in the morning	وہ صبح سویرے جاگتا ہے۔	Huwa yastaiqizu mubakkiratan	هُوَ يَسْتَيْقِظُ مُبَكِّرَةً	۱۱۰
	You wake up after sunrise.	تم سورج نکلنے کے بعد جاگتے ہو۔	Tastaiqizu ba'da tuloo'ish-shams	تَسْتَيْقِظُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ	۱۱۱

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Remember Allah while standing, sitting or lying down	کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کیجیے۔	Uzkurullaaha ta'aala qiyaaman wa qu'oodan wa ala junoobikum	أَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ	۱۱۲
	Summer season is over.	موسم گرما گزر گیا۔	Maza faslus-saif	مَضَى فَصْلُ الصَّيْفِ	۱۱۳
	I have no relation to this	اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔	Haza la yata'allaqu bi	هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِي	۱۱۴
	These things are all cheap	چیزیں پوری سستی ہیں۔	Al ashyaa'au kulluha rakheesah	الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا رَخِيصَةٌ	۱۱۵
	How much have you bought it for?	آپ نے یہ کتنے میں خریدا ہے؟	Bikam ish'taraita haza	بِكَمْ إِشْتَرَيْتَ هَذَا	۱۱۶
	Everything is expensive	ہر چیز مہنگی ہے۔	Kullu shai'in ghaali jiddan	كُلُّ شَيْءٍ غَالِي جِدًّا	۱۱۷
	I would return back to my family very soon	عنقریب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں گا۔	Saufa arji'au ila ahlee	سَوْفَ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي	۱۱۸
	What you said has not been understand by me	آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔	La afhamu kalaamak	لَا أَفْهَمُ كَلَامَكَ	۱۱۹
	I did not understand what you said	میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔	Ma fahimtu kalaamak	مَا فَهِمْتُ كَلَامَكَ	۱۲۰
	I want bread	میں روٹی چاہتا ہوں۔	Ureedul khubz	أُرِيدُ الْخُبْزَ	۱۲۱
	What is your occupation?	آپ کیا کام کرتے ہیں؟	Maa Mihnatuk	مَا مِهْنَتُكَ	۱۲۲
	I have been in this city since a month.	مجھے اس شہر میں ایک مہینہ ہو گیا	Shahrin kaamil qad maza fi hazal makaan	شَهْرٌ كَامِلٌ قَدْ مَضَى فِي هَذَا الْمَكَانِ	۱۲۳
	I don't have money.	اب اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔	Maa Indi Maal	مَا عِنْدِي مَالٌ	۱۲۴
	I was searching this one only.	میں یہی تلاش کر رہا تھا۔	Wa kuntu abhasu haaza huwa munzu zamaan	وَكُنْتُ أُبْحَثُ هَذَا هُوَ مِنْذُ زَمَانٍ	۱۲۵
	Thank you very very much	آپ کا بہت بہت شکریہ / اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے	Jazakallaahu khairan	جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا	۱۲۶
	I have a good opinion about you	آپ سے متعلق میرا گمان بہت اچھا ہے۔	Anta saalihun fi husni zanni	أَنْتَ صَالِحٌ فِي حُسْنِ ظَنِّي	۱۲۷

الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات

